



سوال

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرنے والی لونڈی کو قتل کرنے والے نینا شخص کی حدیث کے بارہ میں

جواب

الحمد للہ

سوال میں مذکور حادثہ کے متعلق درج ذیل نقاط میں کلام کی جائیگی :

اول :

اس حدیث کا حکم :

اس حدیث کو ابو داؤد نے حدیث نمبر (4361) میں روایت کیا ہے، اور اسی طریق سے دارقطنی (112/3) نے بھی اور دوسرے طریق سے بھی مروی ہے

اور امام نسائی نے سنن المجتبیٰ نسائی حدیث نمبر (4070) اور السنن الکبریٰ (304/2) اور ابن ابی عاصم نے اللیات میں حدیث نمبر (249) اور طبرانی نے معجم الکبیر (351/11) اور امام حاکم نے مستدرک الحاکم (394/4) اور بیہقی نے سنن الکبریٰ (60/7) میں روایت کی ہے، سب نے عثمان الشحام عن عکرمہ عن ابن عباس کے طریق سے روایت کی ہے، لیکن روایات کے الفاظ مختلف ہیں کہیں قصہ تفصیلی ہے اور کہیں مختصر

یہ سند حسن ہے، اور اس کے روایات ثقافت ہیں، اس لیے ابو داؤد اور نسائی نے اس حدیث کو روایت کرنا قبول کیا ہے، اور اس پر سکوت اختیار کیا ہے، اور امام احمد نے بھی، اور مجاہد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں :

"امام احمد نے اس سے اپنے بیٹے عبد اللہ کی روایت میں اس سے حجت پکڑی ہے" انتہی

دیکھیں : نیل الاوطار (208/7).

اور امام حاکم کہتے ہیں : صحیح اور مسلم کی شرط پر ہے لیکن انہوں نے اسے روایت نہیں کیا، اور امام ذہبی نے اپنی تلخیص میں اور ابن حجر نے بلوغ المرام (363) میں اسے صحیح کہا ہے، اور کہا ہے اس کے روایات ثقافت ہے

اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند صحیح اور مسلم کی شرط پر قرار دی ہے

دیکھیں : ارواء الغلیل (91/5). انتہی

اس کی شاہدہ روایت ہے جو شعبی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا :

"ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ پر سب و شتم کرتی تھی، تو ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے



اس کا خون باطل قرار دیا

سنن ابوداؤد حدیث نمبر (4362) اس طریق سے ہی بیہشتی نے سنن الکبریٰ (60/7) میں اور ضیاء المقدسی نے المختارہ (169/2) میں روایت کی ہے
شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں :

اس کی سند صحیح اور شخین کی شرط پر ہے، لیکن انقطاع کی وجہ سے علامہ البانی نے ضعیف ابوداؤد میں اسے ضعیف قرار دیا ہے

اقرب یہ ہے کہ اس پر مرسل کا حکم لگایا جائے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں :

"اور دارقطنی علل میں کہتے ہیں: شعبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حرف کے علاوہ کچھ نہیں سنا، جو دوسرے نے نہیں سنا"

گویا کہ انہوں نے اس سے وہ روایت مراد لی ہے جو امام بخاری نے ان سے زعم والی روایت بیان کی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جب انہوں نے ایک عورت کو زعم کیا تو کہنے لگے: میں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ پر زعم کیا ہے "ابن حجر کی کلام ختم ہوئی

دیکھیں: تہذیب التہذیب (68/5).

لیکن اکثر اہل علم کے ہاں شعبی رحمہ اللہ کی مراسیل قبول ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ "الصارم المسلول" میں کہتے ہیں :

"یہ حدیث جید ہے؛ کیونکہ شعبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، اور ان سے شراح المہدانیہ والی حدیث روایت کی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شعبی کی عمر میں برس کے قریب تھی، اور وہ کوفی ہیں، ان کی لقا ثابت ہے، تو حدیث متصل ہوگی، پھر اگر اس میں ارسال بھی ہو تو بالاتفاق حجت ہے، کیونکہ شعبی کا علی سے سماع بعید ہے کیونکہ اہل علم کے ہاں شعبی صحیح المراسیل ہے، وہ اس کی صحیح مراسیل ہی جانتے ہیں، پھر وہ سب لوگوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کو زیادہ جانتے والا ہے، اور وہ اس کے ثقہ اصحاب کو زیادہ جانتا ہے انتہی

دیکھیں: الصارم المسلول (65).

اور اس قصہ کی ایک اور روایت بھی شاہد ہے جو ابن سعد کی روایت الطبقات الکبریٰ (120/4) میں ہے وہ بیان کرتے ہیں :

"ہمیں قیس بن عقبہ نے خبر دی، وہ کہتے ہیں ہمیں یونس بن ابی اسحاق نے ابی اسحاق سے حدیث بیان کی، وہ عبد اللہ بن معقل سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں :

"ابن ام مکتوم مدینہ میں ایک انصاری کی پھوپھی جو یہودی تھی کے پاس ٹھہرے، وہ ان کے ساتھ نرمی برتتی اور بڑی رفیق تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے متعلق انہیں اذیت دیتی، تو انہوں نے اسے پکڑ کر مارا اور قتل کر دیا، اس کا معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو ابن ام مکتوم کہنے لگے :

اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگرچہ وہ میرے ساتھ بڑی نرم دل تھی، لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں بڑی اذیت دی تو میں نے اسے مارا اور قتل کر دیا، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے :

"اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا، میں نے اس کا خون باطل کر دیا"

اس سند کے راوی ثقہ ہیں



ان سب مجموعی روایات سے حاصل یہ ہوا کہ: اصل میں یہ قصہ سنت نبویہ میں ثابت ہے

لیکن کیا یہ ایک واقعہ ہے یا کئی ایک واقعات ہیں؟

ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اسی قول کی طرف مائل ہیں ان کا کہنا ہے:

"اس پر یعنی اس حادثہ کے ایک ہونے پر امام احمد کی کلام بھی دلالت کرتی ہے؛ کیونکہ عبد کی روایت میں ان سے کہا گیا:

جب ذمی آدمی سب و شتم کرے تو اسے قتل کرنے میں احادیث وارد ہیں؟

تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں، ان احادیث میں اس ناپیدنا والی حدیث بھی شامل ہے جس نے عورت کو قتل کیا تھا، وہ کہتے ہیں اس نے سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کر رہی ہے، پھر عبد اللہ نے ان سے دونوں حدیثیں روایت کی ہیں

اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ: اس طرح کے دو قصے دونوں ناپیدنا والی حدیثوں کے ساتھ پیش آنا ہر ایک کے ساتھ عورت بوجھا سلوک کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ وہ بار بار سب و شتم کا بھی شکار تھی، اور دونوں ناپیدنا والی حدیثوں نے اکیلے ہی عورت کو قتل کیا، اور دونوں واقع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قسم دی، یہ عادتاً بعید ہے"

الصارم المسلول (72-73) اختصار کے ساتھ

اور روایات میں اس یہودی کو قتل کرنے کے طریقہ میں اختلاف میں جو اشکال ہے کہ آیا اسے گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا یا کہ تلوار گھونپ کر؟ یہ اشکال باقی رہتا ہے

ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں دو احتمال ذکر کیے ہیں:

احتمال ہے کہ ابن ام مکتوم نے پہلے گلا گھونٹا اور پھر تلوار گھونپ دی

اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ: کسی ایک روایت میں غلطی کا وجود ہے

دیکھیں: الصارم المسلول (72).

دوم:

روایت میں اس کی دلیل نہیں ہے کہ لونڈی کے پیٹ میں بچہ تھا، اور جو کوئی بھی سیاق و سباق سے ایسا سمجھتا ہے اس نے غلطی کی ہے، بعض روایات کے الفاظ میں: "تو اس کی ٹانگوں کے پاس بچہ گر گیا اور وہاں وہ خون سے لت پت ہو گیا"

یہ کسی بھی طرح اس پر دلالت نہیں کرتا؛ بلکہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے دو بچوں میں سے ایک تھا جن کے اوصاف بھی ناپیدنا والی حدیث میں بیان کرتے ہوئے کہا:

"دو موتیوں کی طرح"

وہ بچہ شفقت کے ساتھ اپنی ماں کے پاس آیا اور خون میں لت پت ہو گیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ طبرانی کی ایک روایت کے الفاظ ہیں:

"تو اس کے دونوں بچے اس کی ٹانگوں کے پاس خون میں لت پت ہو گئے"



یعنی یا نشیہ کے ساتھ دو بچوں کا ذکر ہے، اور یہی ہیبتی کی روایت میں بھی ہے :

"تو اس کے دونوں بچے اس کی مانگوں کے پاس خون میں لت پت ہو گئے"

اور "سوالات الآجری ابا داؤد السجستانی" صفحہ (201) میں بھی درج ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے :

ابو داؤد کہتے ہیں : میں مصعب الزبیری کو سنا وہ کہہ رہے تھے :

عبداللہ بن یزید الخنسی صحابی نہیں، وہ کہتے ہیں : یہ وہی ہے جس کی ماں کولمبینے نے قتل کیا تھا، اور یہ وہی بچہ ہے جو اس کی مانگوں کے درمیان گرا تھا، جس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کیا تھا انتہی

تو پھر کوئی نوزادہ بچہ مقتول نہ تھا، اور پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ شریعت ایسا عمل اور قانون لائے کہ بچہ ماں کی سزا کا متحمل ٹھرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا تو فرمان یہ ہے :

اور کوئی بھی کسی دوسرے کا لوجھ اور گناہ نہیں اٹھائے گا۔

حدیث اور روایات کے الفاظ مختلف آنے اور بعض اوقات عکس مرسل روایت جیسا کہ ابو عبیدہ القاسم بن سلام نے "الاموال حدیث نمبر (416) میں بیان کی ہے، اور حفاظ نے عثمان الشحام کی روایت میں مناکیر کی موجودگی کی بنا پر نقد کیا ہے، جیسا کہ یحییٰ القطن کہتے ہیں : کبھی معروف اور کبھی منکر بیان کرتا ہے، اور میرے پاس وہ نہیں

اور ابو احمد الحاکم کہتے ہیں : ان کے ہاں قوی نہیں، اور دارقطنی کہتے ہیں : بصری اور معتبر ہے، یہ سب قصہ میں مذکور تفاسیل میں شک اور توقف واجب کرتا ہے، لیکن یہ اس درجہ تک نہیں پہنچتا کہ اصل روایت ہی رد کر دی جائے اور حادثہ کے وقوع کی نفی کر دی جائے، اس کے علاوہ بھی اس کے کئی شواہد آئے ہیں جن کا اوپر بیان ہو چکا ہے، اور معتقدین اور متاخرین اہل علم نے اسے قبول کیا ہے

سوم :

اس قصہ میں اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے عدل و انصاف کی دلیل پائی جاتی ہے جو ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، جسے شریعت مطہرہ نے سب جہانوں کے لیے بطور رحمت بنا کر لائی ہے

چنانچہ معاہدہ کرنے والے یہودیوں کے حقوق محفوظ ہیں اور کوئی بھی شخص انہیں اذیت و تکلیف نہیں دے سکتا، اسی لیے جب لوگوں نے ایک یہودی عورت کو قتل پایا تو لوگ ہڑ بڑلگئے اور اسکا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا یا جنوں نے ان یہودیوں کو معاہدہ اور امان دے رکھی تھی، اور ان سے جزیہ نہیں لیتے تھے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ کا واسطہ اور قسم دے پوچھا کہ وہ ایسا کرنے والے کو ظاہر کریں، تاکہ وہ اس کی سزا کے متعلق دیکھیں اور اس کے معاملہ میں فیصلہ کریں

لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ اس نے کئی ایک بار معاہدہ توڑا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے اذیت پہنچائی ہے تو وہ اپنے تمام حقوق سے محروم کر دی گئی، اور بطور حد قتل کی مستحق ٹھہری جو شریعت مطہرہ ہر اس شخص پر لاگو کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرے، چاہے مسلمان ہو یا ذمی یا معاہدہ والا، کیونکہ انبیاء کے مقام و مرتبہ کے ساتھ توہین کرنا اللہ کے ساتھ کفر ہے، اور ہر حرمت اور عہد و پیمان اور حق کو توڑنا، اور عظیم خیانت ہے جو سخت سے سخت سزا کی موجب ٹھہرتی ہے

دیکھیں : احکام اهل الذمة (3/1398).



اور ہا یہ مسئلہ کہ: مرتد کی حد لاگو کرنا حکمران یا اس کے نائب سے ساتھ مخصوص ہے، اس اشکال کو توجیح الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے:

"اور باقی یہ رہ جاتا ہے کہ: حدود کا نفاذ امام یعنی حکمران یا اس کے نائب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا؟

اس کا جواب کئی ایک وجوہ سے ہے:

پہلی وجہ:

مالک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے غلام پر حد لاگو کرے اس کی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے:

"تم اپنے غلاموں پر حدود کا نفاذ کرو"

مسند احمد حدیث نمبر (736) شیخ ارناؤوط نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اس طرف مائل ہیں کہ یہ جملہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلام میں سے ہے

دیکھیں: ارواء الغلیل (2325).

اور یہ فرمان:

"جب تم میں سے کسی ایک کی لونڈی زنا کرے تو وہ اسے حد لگائے"

سنن ابوداؤد حدیث نمبر (4470) یہ صحیحین میں ان الفاظ کے ساتھ ہے "تو وہ اسے کوڑوں کی حد لگائے"

فقہاء حدیث کے ہاں کسی اختلاف کا مجھے علم نہیں کہ اسے حد لگانے کا حق حاصل ہے، مثلاً زنا اور قذف و بہتان اور شراب نوشی کی حد، اور مسلمانوں کے ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ اسے تعزیر لگائے، اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ آیا اسے قتل کرنے یا ہاتھ کلٹنے کا حق حاصل ہے، مثلاً مرتد ہونے والے کو قتل کرنا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرنے اور توہین کرنے والے کو قتل کرنا، اور چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا؟

اس میں امام احمد سے دو روایتیں ہیں:

پہلی روایت: جائز ہے، اور یہ امام شافعی سے بھی بیان کردہ ہے

اور دوسری روایت یہ ہے: جائز نہیں، اور اصحاب شافعی سے دو میں سے ایک وجہ اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کا چوری کی بنا پر ہاتھ کاٹا تھا، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جادو کا اعتراف کرنے والی اپنی ایک لونڈی کو قتل کیا تھا، اور یہ ابن عمر کی رائے کی بنا پر ہوا؛ تو اس طرح یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہوئی جو مالک کے لیے غلام پر حد لاگو کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں

دوسری وجہ:

اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ امام کے معاملات میں دخل اندازی ہے، اور امام کو حق حاصل ہے کہ جس نے اس کے بغیر کسی واجب میں حد لاگو کی اسے معاف کر دے

تیسری وجہ:



اگرچہ یہ حد ہے، اور وہ حربی کو قتل کرنا بھی ہے؛ تو یہ اس کے مرتبہ میں ہو کہ اس حربی کو قتل کرنا جس کو قتل کرنا حتمی تھا، اور یہ ہر ایک کو قتل کرنا جائز ہے...

پوچھی وجہ:

اس طرح کا واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے، مثلاً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس منافق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر قتل کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہیں ہوا تھا، تو اس کے اقرار میں قرآن نازل ہوا

اور اسے طرح بنت مروان جسے اس مرد نے قتل کر دیا تھا حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ اور اس کے رسول کا مددگار کا نام دیا، یہ اس لیے کہ جسے کسی معنی یعنی دین کے خلاف چال اور مکر کرنے اور دین کو خراب کرنے کی بنا پر قتل کرنا واجب ہو چکا ہو، وہ اس جیسا نہیں جس نے کسی شخص کو معصیت و نافرمانی زنا وغیرہ کی بنا پر قتل کر دیا ہو "انتہی

دیکھیں: الصارم السلول (285-286).

واللہ اعلم.